



گاؤ ژیشننگ
چین

2012 دسمبر 7-16

حقوق کے لیے قلم اٹھائیں
تبدیلی کا سبب بنیں

قصہ گاؤ ژیشنگ

گاؤ ژیشنگ چین کے قابل قدر حقوق انسانی کے وکلاء میں سے ایک ہیں۔ دسمبر دو ہزار چھ میں انہیں ”بغاوت پر اکسانے“ کے لیے تین سال قید اور پانچ سال کے لیے معطل کر دیا گیا۔ اس کے بعد انہیں اپنے گھر واپس آنے دیا گیا لیکن اپنے بیوی بچوں سمیت غیرقانونی نظربندی میں رکھا گیا۔ ان پر تشدد کیا گیا اور ان کی بے عزتی کی گئی۔ ان کے خاندان نے مسلسل ہراساں کیے جانے کی وجہ سے دو ہزار نو میں چین چھوڑ دیا۔

گاؤ ژیشنگ چار فروری دو ہزار نو کو پولیس کی جانب سے ان کے خاندانی مکان سے پکڑ کر لیجانے کے بعد سے لاپتہ ہو گئے۔ ایک سال سے زائد عرصے کے بعد مارچ دو ہزار دس میں وہ منظر عام پر آئے اور ایک انٹرویو میں انہوں نے ان پر بیتنے والے واقعات بتائے جس میں مزید تشدد بھی شامل تھا۔ ایک موقع پر ان

کا کہنا تھا کہ انہیں اتنا بری طرح مارا پیٹا گیا کہ ’اڑتالیس گھنٹوں کے لیے وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہے۔‘

اپریل دو ہزار دس میں اس انٹرویو کے چند روز بعد وہ دوبارہ غائب ہو گئے۔ بیس ماہ بعد دسمبر دو ہزار گیارہ میں سرکاری میڈیا نے اعلان کیا کہ انہیں اپنی معطل سزا کی شرائط کی خلاف ورزی کی پاداش میں جیل بھیج دیا گیا ہے۔ یہ اعلان ان کے خاندان اور دوست احباب کے لیے حیران کن تھا، جنہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ زندہ ہیں یا مر چکے ہیں۔

گاؤ ژیشنگ کو اس وقت چین کے شمال مغرب میں شایا کاؤنٹی جیل میں رکھا گیا ہے۔

گاؤ ژیشنگ کے ساتھ اظہار یکجہتی

آپ گاؤ ژیشنگ کو ان کی جیل میں خط یا کارڈ ارسال کر سکتے ہیں۔ لکھیں:

Gao Zhisheng

PO Box 15, Sub-box 16

Shaya County 842208

Xinjiang Uighur Autonomous Region

China

چین کے وزیر اعظم کو لکھیں

■ ان پر زور دیں کہ وہ گاؤ ژیشنگ کو فوری طور پر رہا کر دیں۔ جب تک وہ قید میں ہیں انہیں تشدد اور برے سلوک سے دور رکھا جائے۔ جب آپ لکھیں تو چینی حروف میں گاؤ ژیشنگ کا نام لکھیں:

高智晟

Premier of the Peoples Republic of China
The State Council General Office
Fuyoujie 2
Xichengqu
Beijingshi 100017
China

فیکس: +86 10 65961109

آغازِ مکتوب: اعلیٰ مرتبت

Amnesty International
International Secretariat
Peter Benenson House
1 Easton Street
London WC1X 0DW
United Kingdom

AMNESTY
INTERNATIONAL



ستمبر 2012

انٹکس نمبر: ASA 17/027/2012 Urdu

amnesty.org/individuals-at-risk